


باہر نکلیں اور گھومیں

دنیا، سیرٹیل پیکٹس اور سڑکوں کے اشاروں سے لے کر چھینٹے والے جوہڑوں اور جھڑتے پتوں تک، سنسنی خیز الفاظ اور تصویروں اور محسوس کرنے، دریافت کرنے اور کرنے والے کاموں سے بھری پڑی ہے۔

اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے اطراف کی دنیا کو دریافت کریں۔



- سیر پر جائیے اور سڑکوں کے اشاروں اور دکانوں کے فرنیچر کے حروف، الفاظ اور بندسوں کے بارے میں بات کیجیے
- کھانے کی خریداری کرتے ہوئے، پھلوں اور سبزیوں کے سائزوں، رنگوں اور خوشبوؤں کا موازنہ کیجیے



کیا آپ جانتے ہیں کہ سیر کے لئے باہر جانا آپ کے بچے کو سیکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنے بچے کی رفتار سے چلیں، ان اشیا کے بارے میں بات کریں اور دلچسپی لیں جو آپ کا بچے ملاحظہ کرے اور جن کے بارے میں پوچھے۔

تصویری کارڈ کی چابیوں کا چھلا کیسے بنایا اور استعمال کیا جاتا ہے



ستارہ اشارہ

تصویری کارڈز کی چابیوں کے چھلے، اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ ان تصویروں کا ایک چابی کا چھلا بنالیں جو آپ باہر گھومتے پھرتے دیکھتے ہوں گے۔

- آپ کو کیا چاہیے ہو گا
- آپ کی خریداری فہرست کے لئے ایک پینسل اور کاغذ
- پھلوں اور سبزیوں کی تصویریں
- بچوں کی محفوظ قینچی
- سوراخ کرنے والا پنچ
- تصویروں کے اندر سے گزارنے کے لئے ڈوری یا ربن

چھوٹی گپ شپ کا آئیڈیا

جب آپ اپنے بچے کے ساتھ باہر گھومنے جائیں، تو ان آوازوں کو سنیں جو آپ کو سنائی دے سکتی ہیں، جس میں ٹریفک کا شور، سائرنز، کتوں کا بھونکنا، پرندوں کا چہچہانا اور اوپر اڑتے ہوئے جہاز شامل ہیں۔ آپ جو بھی سنیں اس کے بارے میں بات کریں۔ آوازوں کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ ویسی آواز نکال سکتے ہیں؟

آپ کو کیا کرنا ہو گا
کوئی ترکیب تلاش کیجیے اور کتابچوں اور رسالوں میں سے اجزا کی تصویریں کاٹ کر اکٹھے خریداری کی ایک فہرست بنائیے۔

ہر تصویر کے ایک کونے میں ایک سوراخ پنچ کر کے اور ڈوری کے ساتھ باہم باندھ کر ایک چابی والا چھلا بنائیے۔

جب آپ خریداری کریں تو اپنے بچے کو چابی کا چھلا استعمال کرنے دیں۔ اسے تصویریں استعمال کرتے ہوئے کھانا تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ جو بھی دیکھیں اس بارے میں باہم بات کیجیے اور اکٹھے گنیں کہ آپ کو کتنی ضرورت ہوگی۔